



اگر تم بیٹھنے پر مصری ہو تو پھر راستے کو اس کا حق دو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ: راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کی تلقین کرنا اور بری بات سے روکنا

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: راستوں میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ: اے اللہ کے رسول! ان مجلسوں کے بغیر تو چارے نہیں کیوں کہ ہم انہی میں
ہے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں آپ نے فرمایا: اگر تم بیٹھنے پر مصری ہو تو پھر راستے کو اس کا
حق دو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ: راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا
نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کی تلقین کرنا اور بری بات سے روکنا۔
[صحیح] [متفق علیہ]

نبی ﷺ نے اپنے صحابہ کو راستوں میں بیٹھنے سے ڈرایا ہے وہ کہنے لگے کہ اس کے بغیر تو چارے ہی نہیں اس پر آپ
نے فرمایا کہ: اگر تم نہیں رکتے اور تمہارے بیٹھے بغیر کوئی چارے نہیں تو پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم راستے
کو اس کا حق دو۔ انہوں نے دریافت کیا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے انہیں بتایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ
وہ ان عورتوں سے اپنی نگاہیں پست رکھیں جو ان کے سامنے سے گزرتی ہیں، راہ گیاروں کو قول و فعل کے ذریعے
سے ایذا نہ دیں، جو انہیں سلام کرے اس کے سلام کا جواب دیں، اچھی بات کی تلقین کریں اور اپنے سامنے جب
کوئی برا کام ہوتے دیکھیں تو اس صورت میں ان پر واجب ہے کہ وہ اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کریں۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5501>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

